

21900 - اسلام کی مالی سزائوں کا حکم

سوال

اسلام میں مالی سزائوں کا کیا حکم ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جمہور علماء کرام جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں کا مسلک ہے کہ تعزیرا مال لینا جائز نہیں، اور ان میں سے بعض علماء کرام نے ان معاملات جن میں مالی سزا وارد ہوئی ہے کو منسوخ قرار دیا ہے کہ ابتداء اسلام میں جائز تھی پھر اس کے بعد منسوخ کر دی گئی.

انہوں نے تعزیرا مال لینے کے عدم جواز کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس طرح کی سزا ظالم حکمرانوں کے لیے مال حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور وہ لوگوں کا ناحق مال لینا شروع کر دیں گے.

شیخ الاسلام اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمہم اللہ تعزیرا مال لینے کے جواز کے قائل ہیں کہ جب حکمران اس میں مصلحت دیکھے اور ظالموں کو روکے اور شرور برائی ختم ہو تو وہ تعزیرا مال کی سزا نافذ کر سکتا ہے، کیونکہ تعزیر کا باب بہت وسیع ہے.

اس کی ابتدائی چیز کلام کے ساتھ ڈرانا دھمکانا ہے اور سب سے زیادہ تعزیر قتل ہے یعنی جب شرور برائی قتل کے بغیر ختم نہ ہوتی ہو تو تعزیرا قتل کرنا صحیح ہے، اور تعزیرا مال لینا بھی تعزیر کی ایک قسم ہے جس سے ظلم و زیادتی کرنے والوں کو روکا جاتا ہے.

شیخان نے نسخ کا دعویٰ رد کیا اور اس کی مکمل طور پر نفی کی ہے اور اس کی دلیل میں بہت سے معاملات پیش کیے ہیں جن میں مالی سزا کا وجود ملتا ہے.

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

منسوخی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں نہ تو کتاب اللہ میں سے اور نہ ہی سنت نبویہ میں سے، امام احمد کے ہاں یہ جائز ہے اس لیے کہ ان کے ساتھیوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ ساری کی ساری مالی سزائیں

غيرمنسوخ هين .

مالي تعزير لگانے کے دلائل مندرجہ ذيل هين :

نبی کریم صلي الله عليه وسلم نے حرم مدني ميں شكار کرنے والے کا سلب کرنا اس کے لیے مباح کیا ہے جو اسے پائے .

شراب کا مٹکا توڑنے اور اس کا برتن ضائع کرنے کا حکم ديا .

عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه کو معصفر (ايک قسم کا زرد رنگ) سے رنگے ہوئے کپڑے جلانے کا حکم ديا .

حفاظت کي جگہ کے علاوہ کسی جگہ سے چوري کرنے والے پر ڈبل جرمانہ کیا .

نبی کریم صلي الله عليه وسلم نے مسجد ضرار کو منہدم کیا .

قاتل کو وصيت اور وراثت سے محروم کر ديا .

شيخ الاسلام رحمہ الله تعالى کہتے هين :

مالي سزاؤں کي تين اقسام هين :

اول :

ضائع اور تلف کرنا : برائي اور منکر کے تابع ہوتے ہوئے برائي والي جگہ کا تلف کرنا، مثلا بتوں کو توڑ اور جلا کر، اور موسيقي اور آلات لہو کو توڑنا، اور شراب رکھے جانے والے برتن اور مشکيزے پھاڑنا، اور شراب فروخت کرنے والي دوکانوں کو جلا کر، زنديقوں اور ملحدوں کي کتابيں اور مخرب الاخلاق فلميں اور تصويريں اور مجسمے ضائع اور تلف کرنا .

دوم :

تغير وتبدل کے ساتھ : مثلا جعلي کرنسي توڑنا اور تصاویر والے پردوں کو پھاڑ کر اس کے تکیے وغيره بنانا .

سوم :

ملکيت : مثلا لٹکي ہوئي کھجوروں کي چوري، اور ملاوٹ شدہ زعفران کا صدقہ کرنا، تو اس طرح کي اشياء لے کر اسے يا اس کي قيمت صدقہ کرنا .